



## JUZ 7 – PART 1

### SURAH AL MAIDAH 83-120

#### ROOT WORDS

Translation	ROOT WORD	WORD	AYAT
آپ دیکھتے ہیں	ر ا ی	تَرَى	83
بہہ پڑتی ہیں	ف ی ض	تَفِيضُ	
آنسوؤں	د م ع	الدَّمْعِ	
پس بدلے میں دیا نہیں	ث و ب	فَأَتَابَهُمْ	85
تم حد سے تجاوز کرو	ع د و	تَعَدُّوا	87
تمہاری قسموں	ی م ن	أَيْمَانِكُمْ	89
پس بچو اس سے	ج ن ب	فَاجْتَنِبُوهُ	90
وہ ڈال دے	و ق ع	يُوقِعَ	91
روک دے تمہیں	ص د د	يَصُدِّكُمْ	
پہنچا دینا ہے	ب ل غ	الْبَلَاغُ	92
پالیں گے اسے	ن ی ل	تَنَالُهُ	94
نیزے تمہارے	ر م ح	رِمَاحِكُمْ	
جان بوجھ کر	ع م د	مُنْعَمًا	95
چوپایوں میں	ن ع م	النَّعَمِ	
تاکہ وہ چکھے	ذ و ق	لِيَذُوقَ	
تو انتقام لے گا	ن ق م	فَيَنْتَقِمُ	
ہو تم	د و م	دُمْتُمْ	96
پٹے والے جانوروں کو	ق ل د	الْقَلَائِدَ	97
سزا والا ہے	ع ق ب	الْعِقَابِ	98
ناپاک	خ ب ث	الْخَبِيثُ	100
اچھی لگے تمہیں	ع ج ب	أَعْجَبَكَ	

بری لگیں تمہیں	س و ا	تَسْوُكُم	101
تم روک لو ان دونوں کو	ح س ب	تَحْسِبُونَهُمَا	106
شک کرو تم	ر ی ب	ارْتَبْتُمْ	
ہم چھپائیں گے	ک ت م	نَكْتُم	
اطلاع ہو جائے	ع ث ر	عُثِرَ	107
دو قریب ترین	ا و ل	أَوْلِيَانِ	
زیادہ قریب ہے	د و ن	أَدْنَى	108
مٹی	ط ی ن	الطِّينِ	110
پھر تو پھونک مارتا تھا	ن ف خ	فَتَنَفَخُ	
تو اچھا کر دیتا تھا	ب ر ا	تُبْرِئُ	
پیدا کنٹی اندھے کو	ک م ہ	الْأَكْمَةَ	
روکا میں نے	ک ف ف	كَفَفْتُ	
وحی کی میں نے	و ح ی	أَوْحَيْتُ	111
حواریوں کے	ح و ر	الْحَوَارِيِّينَ	
ایک دسترخوان	م ی د	مَائِدَةً	112
دوالہ	ع ل ہ	الْهِنِّ	116
فوت کر دیا تو نے مجھے	و ف ی	تَوَفَّيْتَنِي	117
نگران	ر ق ب	الرَّقِيبِ	

### SURAH AL AN'AM 1-35

وہ برابر قرار دیتے ہیں	ع د ل	يَعْدِلُونَ	1
تم شک کرتے ہو	م ر ی	تَمْتَرُونَ	2
قومیں	ق ر ن	قَرْنٍ	6
بہت برسنے والا	د ر ر	مِدْرَارًا	
کاغذ	ق ر ط س	قِرْطَاسٍ	7

البتہ مشتبہ کر دیتے ہم	ل ب س	لَلْبَسْنَا	9
چلو پھرو	س ی ر	سِيرُوا	11
نافرمانی کی میں نے	ع ص ی	عَصَيْتُ	15
پہنچائے آپ کو	م س س	يَمْسَسُكَ	17
کوئی دور کرنے والا	ک ش ف	كَاشِفَ	
وحی کیا گیا	و ح ی	أُوحِيَ	19
خسارے میں ڈالا	خ س ر	خَسِرُوا	20
گھڑے	ف ر ی	افْتَرَى	21
تم دعویٰ کرتے	ز ع م	تَزْعُمُونَ	22
پردے	ک ن ن	أَكْنَتَهُ	25
البتہ پھر کریں گے	ع و د	لَعَادُوا	28
گھڑی (قیامت کی)	س و ع	السَّاعَةَ	31
اچانک	ب غ ت	بَغْتَةً	
افسوس ہمارا	ح س ر	حَسْرَتَنَا	
کمی کوتاہی کی ہم نے	ف ر ط	فَرَطْنَا	
وہ اٹھائیں گے	ح م ل	يَحْمِلُونَ	
بوجھ اپنے / وہ بوجھ اٹھائیں گے	و ز ر	أَوْزَارَهُمْ / يَزِرُونَ	
اپنی پشتوں پر	ظ ہ ر	ظَهْرَهُمْ	
البتہ تمکین کرتا ہے آپ کو	ح ز ن	لَيَحْزُنَنَّكَ	33
وہ انکار کرتے ہیں	ج ح د	يَجْحَدُونَ	
کوئی بدلنے والا	ب د ل	مُبَدِّلَ	34
استطاعت رکھتے ہیں آپ	ط و ع	اسْتَطَعْتَ	35
البتہ وہ جمع کر دیتا انھیں	ج م ع	لَجَمَعَهُمْ	